



## رسول الله ﷺ نیک دفعہ بطور ہدی (قربانی کے لیے) بیت اللہ شریف کی طرف) بکریاں بھیجی تھیں

عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نیک دفعہ بطور ہدی (قربانی کے لیے) بیت اللہ شریف کی طرف) بکریاں بھیجی تھیں  
[صحیح] [متفق علیہ]

عائشہ رضی اللہ عنہا نبی ﷺ کی ہدی کے بارے میں بتا رہی ہیں ہدی سے مراد وہ جانور ہے، جو مکہ کی طرف اللہ کی خوش نودی کے حصول کے لیے بھیجا جاتا ہے؛ تاکہ اس حرم میں ذبح کیا جائے مکہ مکرمہ کی طرف ہدی کا جانور بھیجنا سنت اور نیکی کا کام ہے نبی ﷺ بطور ہدی بھیڑ بکریاں بھی بھیجیں اور اونٹ بھی سنت ہے کہ اللہ کی خوش نودی کی غرض سے ان جانوروں کو حرم میں ذبح کیا جائے اور فقرا اور مساکین حرم میں تقسیم کر دیا جائے وہ ہدی جو حج تمتع یا حج قرآن یا پھر واجبات میں سے کسی واجب کو ترک کرنے یا پھر کسی حرام کا ارتکاب کرنے لینے کی وجہ سے لازم ہوتی ہے، اسے فدیہ کہا جاتا ہے ہدی واجب ہوتی ہے جب کہ وہ ہدی جس کا ذکر عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا ہے، اسے مؤمن اپنے علاقہ سے بطور نفل پیش کرتا ہے یا پھر راستہ میں اسے خریدتا ہے اور حرم کعبہ تک پہنچا دیتا ہے اور اس سے اس کی نیت اللہ عز و جل کی خوش نودی ہوتی ہے

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/3124>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

